



## سوال

(787) چند لفظ ہیں جن کا معنی دریافت کرنا ہے۔ لُح

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مولانا صاحب چند لفظ ہیں جن کا معنی دریافت کرنا ہے۔ لفظ یہ ہیں (۱) اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُونِ وَاَنْ يَّسُخَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَشْرَاطِیْآ اِذَا قُضِیَ الْحُكْمُ یَا رَحِیْمُ یَا كَرِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ اعراب اسی طرح ہے اور (۲) یا بُدُوْحُ (۳) فُؤَجَتْ شِیْرَاةٌ اور ان کی حقیقت واضح کریں اور ان کا پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے حدیث وقرآن سے واضح کریں اور مولانا صاحب ان کے اعراب بالکل اسی طرح ہیں۔  
قاری محمد یعقوب گجراتی 30 نومبر 1997

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

(۱) اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُونِ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ اے میرے رب کہ وہ (شیطان) میرے پاس حاضر ہوں۔ وَاَنْ يَّسُخَرُوْا وَاَنْ يَّكُوْنُوْا اَشْرَاطِیْآ اگر لفظ صحیح لکھے گئے ہیں تو ان کا معنی مجھے معلوم نہیں۔ اِذَا قُضِیَ الْحُكْمُ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اَعُوذُ بِكَ میں اللہ کو مخاطب بنا گیا ہے اور اللہ حافظی میں غائب بنا گیا ہے۔

(۲) صحیح اعراب اس طرح ہے یَا رَحِیْمُ یَا كَرِیْمُ جَلَّ جَلَالُهُ مگر اس میں بھی یَا رَحِیْمُ یَا كَرِیْمُ خطاب ہے اور جَلَّ جَلَالُهُ غائب ہے۔

(۳) قاموس والے نے اس مادہ کے جو الفاظ و معانی لکھے ہیں ان کے اعتبار سے اس کے مندرجہ ذیل معانی ہو سکتے ہیں۔

(i) بہت شق وچاک کرنے والا (ii) زیادہ واضح (iii) بہت ہی زیادہ کھلا اور وسیع۔

(۴) فُؤَجَتْ شِیْرَاةٌ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ دراصل ”فوج کا شیرازہ“ تھا صاحب قاموس نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کہیں ملا ہے۔ اس میں صرف لفظ فوج عربی ہے باقی لفظ ”کا“ اور لفظ ”شیرازہ“ عربی نہیں۔ یہ کسی شَرِبَتْ کو شَرِبَتْ پڑھنے والے کا کارنامہ ہے۔ واللہ اعلم ۲۱/۸/۱۴۱۹ھ

## قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل



جلد 01 ص 503

محدث فتویٰ